

English**For your child's safety and health****WARNING!**

- Continuous and prolonged sucking of fluids will cause tooth decay.
- Always check food temperature before feeding.
- Throw away at the first signs of damage or weakness.
- Keep components not in use out of the reach of children.
- Never attach to cords, ribbons, laces or loose parts of clothing. The child can be strangled.
- Before first use, clean the product and then place it in boiling water for 5 minutes. This is to ensure hygiene.
- Best stored in the dark and at normal room temperature, for example in a kitchen cupboard.
- Any use, care, heating or storage other than what is recommended might damage the product.
- Retain product information for future reference.
- For hygienic reasons – clean thoroughly before each use.
- Handwash only.
- Not microwave-safe.
- Clean all parts, even the hidden ones, and rinse them thoroughly with water to remove any beverage or food residues.

Español**Para la seguridad de su bebé****¡ADVERTENCIA!**

- La succión continua y prolongada de líquidos puede causar caries.
- Comprobar siempre la temperatura de la comida antes de dar el alimento.
- Desechar en los primeros signos de daño o rotura.
- Mantener fuera del alcance de los niños todos los componentes que no estén en uso.
- Nunca unirlo a cordones, cintas, lazos o partes sueltas de la ropa. Su niño podría estrangularse.
- Antes de usar el producto por primera vez, límpialo y sumérgetelo en agua hirviendo durante 5 minutos para higienizarlo.
- Guarda el producto en un entorno oscuro y a una temperatura ambiente normal, como un armario de cocina.
- Cualquier utilización, mantenimiento, calentamiento o conservación diferente a lo recomendado podría causar daños al producto.
- Guarda la información del producto para consultarla en el futuro.
- Por higiene, limpia a conciencia este producto antes de cada uso.
- Lavar a mano.
- No apto para microondas.
- Limpia todas las partes, incluidas las no visibles, y acláralas abundantemente con agua para quitar cualquier resto de comida o bebida.

Portugues**Segurança e saúde das crianças****AVISO!**

- A sucção contínua e prolongada de fluídos provoca cáries dentárias.
- Verifique sempre a temperatura dos alimentos antes de dar de comer.
- Deite fora ao primeiro sinal de danos ou fragilidade.
- Mantenha os componentes que não estão a uso fora do alcance das crianças.
- Nunca prenda a cabos, fitas, laços ou peças soltas de roupa. Risco de estrangulamento de crianças.
- Antes da primeira utilização, limpe o artigo e coloque-o em água a ferver durante 5 minutos para garantir a higienização.
- O artigo deve ser guardado num local escuro e à temperatura ambiente, por exemplo, num armário de cozinha.
- Qualquer utilização, manutenção, aquecimento ou arrumação diferentes das recomendações podem danificar o produto.
- Guarde as informações sobre o artigo para consulta futura.
- Por questões de higiene, limpe bem antes de cada utilização.
- Lavar à mão.
- Não é próprio para microondas.
- Limpe todas as peças, incluindo as escondidas, e enxague bem com água para retirar quaisquer resíduos de bebida ou comida.

Design and Quality
IKEA of Sweden**中文****保障儿童安全和健康****警告！**

- 儿童吮吸饮品时长时间持续接触液体可能会导致蛀牙。
- 喂食前务必检查食物温度。
- 出现损坏或变软迹象时，应立即丢弃。
- 不使用时，确保组件放在儿童无法触及的地方。
- 切勿将其系挂在绳索、装饰带、丝带或衣服松散的部分，以免带来儿童缠绕窒息的危险。
- 第一次使用之前，请先将产品清洗干净，然后放入沸水中5分钟，以确保卫生。
- 建议存放在常温阴暗处，如厨房橱柜内。
- 如未能按照建议使用、护理、加热或储存，都可能会损坏产品。
- 请保留产品信息以备将来用作参考。
- 出于卫生方面的考虑，请在每次使用前都彻底清洁。
- 只可手洗。
- 非微波炉用品。
- 请清洁包括隐藏部件在内的所有部件，并用水彻底冲洗，以去除所有饮料或食物残渣。

繁中**為確保孩童的安全與健康****注意！**

- 連續長期吸吮液體可能導致蛀牙。
- 每次餵食前，請先檢查食物溫度。
- 若發現損壞或瑕疵，應立即丟棄。
- 不使用時請收妥在孩童觸及不到的地方。
- 請勿繫在電線、綵帶、花邊或衣服上鬆脫的部分，以免造成兒童纏勒的情況。
- 首次使用前，必須清洗產品，然後放入沸水中5分鐘以確保乾淨衛生。
- 請儲存於陰涼及正常室溫環境中，例如櫥櫃內。
- 任何不正確使用、保養、加熱或儲存方法均會損壞產品。
- 請保留產品訊息作日後參考之用。
- 衛生理由，請於每次使用前徹底清潔。
- 只能手洗
- 不可微波
- 需清洗所有部分，包括隱藏位置，並用水徹底清洗，去除飲料污漬或食物殘渣

한국어**어린이 안전 경고****주의!**

- 오랜 시간 동안 액체를 빠는 행동은 충치를 유발할 수 있습니다.
- 섭취 전 음식 온도를 꼭 확인하세요.
- 제품 손상이 있는 경우 바로 폐기하세요.
- 사용하지 않는 부품은 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하세요.
- 목줄림 사고의 위험이 있으니 코드, 리본,끈 또는 옷의 느슨한 부분에 부착하지 마세요.
- 처음 사용하기 전에 위생을 위해 제품을 깨끗이 닦은 다음 물에 5분 동안 두십시오.
- 부엌 찬장과 같이 어두운 상온에서 보관하는 것이 가장 좋습니다.
- 권장되지 않는 방식의 사용, 관리, 가열 또는 보관은 제품을 손상시킬 수 있습니다.
- 나중에 참조할 수 있도록 제품 설명서를 보관하십시오.
- 위생을 위해 사용하기 전에 꼼꼼히 세척하십시오.
- 손으로 씻어주세요.
- 전자레인지에 사용하지 마세요.
- 숨겨진 부품을 포함하여 모든 부품을 세척한 후 물로 깨끗하게 헹구어 음료나 음식 찌꺼기를 제거하십시오.

日本語**お子さまの安全と健康のために****警告！**

- 流動物を継続的かつ長時間にわたって口にしていると、虫歯の原因になります。
- 必ず食品の温度を確認してから、お子さまに与えてください。
- 損傷や劣化の兆候が見られたら、直ちに破棄してください。
- 使用していないパートは、お子さまの手が届かないところに保管してください。
- 衣服のコード、リボン、レース、外れやすいパートなどに取り付けないでください。お子さまの首に絡まるおそれがあります。
- 初めてご使用になる前に、製品を洗い、沸騰したお湯に5分間入れてください。こうすると、衛生的で安心です。
- キッチンキャビネットなど、常温の暗いところで保管するのが最適です。
- おすすめする以外の方法でのご使用、お手入れ、加熱、保管は、製品が損傷するおそれがあります。
- この製品情報はいつでも参照できるよう大切に保管してください。
- 衛生上の理由から、毎回使用する前にきれいに洗ってください。
- 手洗いのみ
- 電子レンジ使用不可
- 隠れている部分・パートを含め全体を洗い、水で汚れをしっかり洗い流してください

Bahasa Indonesia

Demi keselamatan dan kesehatan anak Anda

PERINGATAN!

- Mengisap cairan secara terus menerus dan berkepanjangan akan menyebabkan kerusakan gigi.
- Selalu periksa suhu makanan sebelum diberikan.
- Buang jika terlihat tanda-tanda kerusakan atau cacat.
- Jauhkan komponen yang tidak digunakan dari jangkauan anak-anak.
- Jangan sekali-kali menempel pada kabel, pita, tali, atau bagian pakaian yang longgar. Karena anak bisa tercekit.
- Sebelum digunakan pertama kali, bersihkan produk lalu masukkan ke dalam air mendidih selama 5 minit untuk memastikan kebersihan.
- Paling baik disimpan dalam gelap dan pada suhu ruangan normal, misalnya di lemari dapur.
- Penggunaan, perawatan, pemanasan, atau penyimpanan apa pun selain yang direkomendasikan dapat merusak produk.
- Simpan informasi produk untuk referensi di masa mendatang.
- Untuk alasan higiene - bersihkan secara menyeluruh sebelum digunakan.
- Hanya dapat dicuci dengan tangan.
- Tidak untuk microwave.
- Bersihkan semua bagian, bahkan bagian yang tersembunyi, dan bilas secara menyeluruh dengan air untuk menghilangkan sisa minuman atau makanan.

Bahasa Malaysia

Demi keselamatan dan kesihatan anak anda

AMARAN

- Menghisap cecair secara berterusan dan berpanjangan akan mengakibatkan kerosakan gigi.
- Sentiasa periksa suhu makanan sebelum diberi makan.
- Buang jika terdapat tanda-tanda kerusakan atau tidak boleh digunakan.
- Jauhkan kanak-kanak dari komponen yang tidak digunakan.
- Jangan pasang pada kord, riben, renda atau bahagian pakaian yang longgar. Kanak-kanak boleh terjerut.
- Sebelum digunakan buat pertama kali, bersihkan produk dan tempatkannya di dalam air mendidih selama 5 minit. Ini untuk memastikan kebersihan.
- Sebaik-baiknya disimpan di tempat yang gelap dan pada suhu normal, sebagai contoh di dalam almari dapur.
- Sebarang penggunaan, penjagaan, pemanasan atau penstoran selain daripada yang disyorkan boleh merosakkan produk.
- Simpan maklumat produk untuk rujukan pada masa hadapan.
- Atas sebab kebersihan - cuci dengan sebersih-bersihnya sebelum setiap penggunaan.
- Cucian tangan sahaja.
- Tidak selamat digunakan di dalam ketuhar gelombang mikro.
- Bersihkan semua bahagian, walaupun yang tersembunyi, dan bilas dengan teliti menggunakan air untuk menanggalkan sebarang lebihan mimuman atau makanan.

عربى

من أجل سلامة وصحة طفلك

تحذير!

- الامتصاص المستمر والطويل للسوائل يؤدي إلى تسوس الأسنان.
- تحقق دائمًا من درجة حرارة الطعام قبل إعطائه لطفلك.
- تخلصي دائمًا من المنتج عند ظهور أي بوادر للضرر أو التلف.
- احفظي المكونات غير المستخدمة بعيدًا عن متناول الأطفال.
- لا تعلقي أبدًا جبال أو شرائط أو أربطة أو أجزاء فضفاضة من الملابس. يمكن أن يتعرض الطفل بسيبها إلى الخنق.
- قبل الاستخدام لأول مرة، نظر المنتج ثم ضعه في ماء مغلي لمدة 5 دقائق. وهذا لضمان نظافته.
- يُفضل تخزينه في مكان مظلم وفي درجة حرارة الغرفة العادية، على سبيل المثال في خزانة المطبخ.
- أي استخدام أو عناية أو تسخين أو تخزين بخلاف ما هو موصى به قد يؤدي إلى تلف المنتج.
- يرجى الاحتفاظ بمعلومات المنتج للرجوع إليها في المستقبل.
- لأسباب صحية - أغسليه جيداً قبل كل استخدام.
- غسله يدوياً فقط.
- غير آمن في المايكروويف.
- نظفي جميع الأجزاء، حتى المخفية منها، واسطفيها جيداً بالماء لإزالة أي مشروب أو بقايا طعام.

ไทย

เพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของเด็ก

คำเตือน!

- การดูดเครื่องดื่มติดต่อกันเป็นเวลางานทำให้เกิดอาการพับผูกได้
- ตรวจสอบอุณหภูมิอาหารก่อนป้อนให้เด็กทุกครั้ง
- หากพบร่องรอยชำรุด เสียหาย หรือเสื่อมสภาพ ให้กีบกันก็เก็บส่วนที่ไม่ได้ใช้งานให้พับมือถือ
- ห้ามนำสายรับเบื้องอกไปหัดกันก็ได้
- ก่อการใช้งานหรือแกะ ก้าวตามส่วนตัวและนำไปลับในน้ำเดือด 5 นาทีเพื่อสุขอนามัยก็ได้
- โปรดเก็บใบพืชดัด อุกฤษณ์ห้องปักตี เช่นใบตู่ครัว
- การใช้งาน การดูแลรักษา การใบความร้อน และการเก็บก็ใบเป็นไปตามค่าแบบน้ำขาวทำให้สับค้าเสียหายได้
- โปรดเก็บคู่มือสินค้าไว้ใช้ว่างอังกฤษ
- เพื่อสุขอนามัยก็ต้องดูแลรักษาอย่างดี
- หักหรืออ้างด้วยมือเท่านั้น
- ห้ามใช้ในเตาไมโครเวฟ
- การทำความสะอาดทุกส่วน รวมถึงส่วนที่อยู่ด้านใน ล้างน้ำเพื่อขจัดคราบอาหารและเครื่องดื่มน้อกให้หมดจด

Tiếng Việt

Vì sự an toàn và sức khỏe của con bạn

CẢNH BÁO!

- Hút chất lỏng liên tục và trong thời gian dài sẽ làm sâu răng.
- Luôn kiểm tra nhiệt độ thức ăn trước khi cho trẻ ăn.
- Lập tức vứt bỏ sản phẩm nếu bắt đầu thấy có dấu hiệu hư hỏng hoặc bị yếu.
- Đặt các bộ phận mà bạn không sử dụng ở ngoài tầm tay trẻ em.
- Không gắn vào dây, ruy băng, ren hoặc những bộ phận lỏng lẻo của quần áo vì trẻ có thể bị siết cổ bởi những vật này.
- Trước khi sử dụng, rửa sạch sản phẩm và nhúng vào nước sôi trong vòng 5 phút để đảm bảo vệ sinh.
- Phù hợp nhất khi cất trong bóng tối và tại nhiệt độ phòng, ví dụ như trong tủ đựng chén đĩa.
- Các hành vi sử dụng, chăm sóc, hâm nóng hoặc lưu trữ không được khuyến nghị có thể làm hư hỏng sản phẩm.
- Lưu lại thông tin sản phẩm để tham khảo sau này.
- Vì các lý do vệ sinh - rửa sạch hoàn toàn trước mỗi lần sử dụng.
- Chỉ giặt/rửa bằng tay.
- Không an toàn để dùng trong lò vi sóng.
- Vệ sinh mọi bộ phận, ngay cả những bộ phận nằm bên trong, và gột lại thật kỹ bằng nước để loại bỏ bất kỳ đồ ăn hoặc thức uống nào còn sót lại.